



سوال

(389) سودی روپیوں سے تجارت جائز نہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سودی روپیہ لے کر تجارت کرنا حرام اور گناہ ہے۔ یا نہیں۔ اور مال حاصل کردہ سودی روپیہ سے طیب و پاک ہونا یا ناپاک۔ یتنوا تو جروا۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سودی روپیہ لے کر تجارت کرنا اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس واسطے کہ سود حرام قطعی ہے۔ اور لینے والے اور دینے والے اور گواہ ہونے والے اور تمسک لکھنے والے پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی ہے۔

عن جابر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربوا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سواء رواہ مسلم کزانی المشکوٰۃ

اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں۔ ان کا آسان حصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔

عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربوا سبعون جزء لیسراہا ان شیخ الرجل بامرہ رواہ ابن ماجہ ولبہیقتی کزانی المشکوٰۃ

اور مال حاصل کردہ سودی روپے سے ناپاک ہے۔ اس واسطے کہ جب سبب حرام و ناٹھرا تو جو چیز اس سے حاصل ہوگی۔ وہ بھی اسی کے حکم میں ہوگی۔

ہذا ما عندي والله أعلم بالصواب

[فتاویٰ ثنائیہ امر تسری](#)



محدث فتویٰ